

Arabic to English Sentences

He is at home in Arabic.

هُوَ مُتَمَعِّرٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ
وہ عربی میں ماہر ہے

Vacate my house.

أَخْلِ بَيْتِي
میرا گھر خالی کر دو

Beware of him.

إِحْتَرِزْ مِنْهُ
اس سے بچ کر رہو

Everything will be settled.

سَيَصْلُحُ جَمِيعُ الْأَحْوَالِ
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا



Arabic to English Sentences

Get your name registered.

سَجِّلْ إِسْمَكَ
اپنا نام رجسٹر کروالو

I lost my appetite.

ذَهَبَ عَنِّي الْجُوعُ
میری بھوک ختم ہو گئی ہے

May I know your name?

مَا مَعْرِفَتُكَ
کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟

This brake does not work.

هَذِهِ الْفَرْمَلَةُ لَا تَعْمَلُ
یہ بریک نہیں لگتی



Arabic to English Sentences

You need not worry.

لَا تَتَفَكَّرْ
آپ فکر نہ کریں

Keep to the left.

ذَامِشِ يَسَارًا
بائیں طرف چلو

Where are you getting off?

أَيْنَ تَنْزِلُ؟
آپ کہاں اتریں گے؟

How long will it take?

كَمْ وَقْتًا يَسْتَعْرِقُ؟
کتنی دیر لگے گی؟



That is all.

نعم، هَذِهِ هِيَ
ہاں، بس یہی ہے

I cannot wait.

لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُنْتَظِرُ
میں انتظار نہیں کر سکتا

Don't argue with me.

لَا تُنَاقِشْنِي
میرے ساتھ بحث مت کرو

Don't try my patience.

لَا تَمْتَحِنِ صَبْرِي
میرے صبر کا امتحان نہ لو



Arabic to English Sentences

He is not at home.

مَا فِي الدَّارِ هُوَ
وہ گھر پر نہیں ہے

Should I leave or stay?

أَذْهَبُ أَمْ أَقِفُ؟
میں جاؤں یا کھڑوں؟

It was not my fault.

هَذِهِ لَمْ تَكُنْ جَرِيئِي
یہ میرا قصور نہیں تھا

I'll think over this matter.

سَأَتَفَكَّرُ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ
میں اس معاملہ پر سوچوں گا



Arabic to English Sentences

I got duped by him.

اِخْتَرَعْتُ بِكَيْدِهِ

میں اس کے فریب میں آگیا

As you like.

كَمَا تَشَاءُ

جیسے آپ کی مرضی

I am awfully hungry.

أَنَا جَوْعَانَ جِدًّا

مجھے سخت بھوک لگی ہے

Not at all.

لَنْ

ہرگز نہیں



How is weather?

كَيْفَ كَانَ الْجَوُّ؟
موسم کیسا ہے؟

It is twenty to nine.

السَّاعَةُ التَّاسِعَةُ إِلَّا ثَلَاثًا
نوبتے میں بیس منٹ باقی ہیں۔

What is the time please?

يا سَيِّدِي! كَمِ السَّاعَةِ الْآنَ؟
جناب کیا وقت ہوا ہے؟

Do not worry.

لَا تَحْزَنْ
فکر نہ کیجئے



Why have you come late?

لِمَاذَا تَأَخَّرْتَ؟

آپ دیر سے کیوں آئے؟

I have done.

قَدْ شَبِعْتُ

میں سیر ہو گیا

This is my luggage

هَذَا مَتَاعِي

یہ میرا سامان ہے

Do you want some rest?

هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيحُ قَلِيلًا؟

کیا آپ کو کچھ آرام چاہیے؟

Why are you so sad?

لِمَاذَا تَحْزَنُ حُزْنًا؟
آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟

She is not your well-wisher.

هِيَ لَيْسَ بِنَاصِحٍ لَكَ
وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے

It is a very ambitious plan.

هَذِهِ خُطَّةٌ كَبِيرَةٌ
یہ بہت بڑا منصوبہ ہے

Is she still here?

هل هي هُنَا حَتَّى الْآنَ؟
کیا وہ ابھی بھی یہیں ہے؟



Arabic to English Sentences

Please come here.

تَشْرَفْ قَلِيلاً بِأَيْتَانِ هُنَا
ذرا یہاں آنا

I have full faith in him.

أَنَا أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ إِعْتِمَادًا كَامِلًا
مجھے اس پر پورا اعتماد ہے

He is on the point of death.

هُوَ عِنْدَ حَالَةِ النِّزَعِ
وہ مرنے کے قریب ہے

His ankle was sprained.

قَدْ أُصِيبَ بِالتَّوَاءِ فِي رِجْلِهِ
اس کے ٹخنے میں موج آگئی ہے



Arabic to English Sentences

Let me go.

خَلِّ سَبِيلِي
مجھے جانے دو

Get lost at once.

قُمْ عَنِّي حَالًا
فورا دُفع ہو جاؤ

He has gone back on his word.

هُوَ اِنْصَرَفَ عَن وَعْدِهِ
وہ اپنے وعدے سے پھر گیا

I think your name is Ali.

أَظُنُّ أَنَّ اِسْمَكَ عَلِيٌّ
میرا خیال ہے آپ کا نام علی ہے۔

